



سٹی آف برامپٹن 21 فروری 2022 سے عوام کو بغیر اپوائنٹمنٹ کے

تشریف لانے کی اجازت دے رہا ہے

برامپٹن، آن (9 فروری 2022) – سٹی آف برامپٹن بروز پیر، 21 فروری 2022 سے عوام کو بغیر اپوائنٹمنٹ کے آنے کی اجازت دینے کے لیے اپنی سہولیات کو محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔

سٹی کی سروسز اور سہولیات

سٹی ہال کی بغیر اپوائنٹمنٹ سروسز

سٹی ہال رہائشیوں کے لیے سٹی سروسز تک رسائی کے لیے صبح 8:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک کھلا رہے گا۔ اب اپوائنٹمنٹس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگرچہ اپوائنٹمنٹس اب بھی دستیاب ہوں گی، مگر بغیر اپوائنٹمنٹ کے بھی آنے کی اجازت ہو گی۔ اپوائنٹمنٹس [پہاں](#) بک کرائی جا سکتی ہیں۔

سٹی کی کرایہ پر سہولیات

اب ریکرینیشن سنٹر کی کرایہ کی سہولیات بکنگ کے لیے دستیاب ہیں۔ جگہ بک کرنے کے لیے، کال کریں (2665) 905.874.BOOK

سروس برامپٹن

رہائشی سروسز کی درخواست کرنے اور تفریحی سہولیات کے لیے رجسٹریشن، پارکنگ ٹکٹ کی ادائیگیوں اور نقد رقم کے علاوہ طریقوں سے ٹیکس ادائیگیوں سمیت دیگر کئی مختلف امور کو مکمل کرنے کے لیے شہر بھر میں موجود سروس برامپٹن کے مقامات کو آسانی سے وزٹ کر سکیں گے۔ ان مقامات پر ادائیگیوں کے لیے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور چیک قبول کیے جائیں گے۔

سروس برامپٹن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہفتے کے 7 دن اور روزانہ 24 گھنٹے چار آسان طریقے موجود ہیں:

- آن لائن ملاحظہ کریں: 311Brampton.ca
- ایپ اسٹور یا گوگل پلے سے 311 برامپٹن ایپ ڈاؤن لوڈ کریں
- برامپٹن کی شہری حدود کے اندر سے 311 ڈائل کریں (905.874.2000 شہر کی حدود کے باہر سے)
- ای میل بھیجیں: 311@brampton.ca

اوقات کار اور مقامات کی معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: www.brampton.ca

کونسل کے چیئرمینز میں واپسی

21 فروری سے، کونسل کے ممبران ذاتی طور پر حاضری کے لیے واپس آ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پانچ ممبران جبکہ بقیہ ممبران ریموٹ طریقے سے شرکت کر سکتے ہیں۔ یہ تعداد وقت کے ساتھ بڑھے گی تاکہ تمام 11 ممبران ذاتی ملاقاتوں کے لیے واپس آ سکیں۔

اس وقت، عوام کو ریموٹ طریقے سے شرکت جاری رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آنے والے مہینوں میں مزید تفصیلات کا اشتراک کیا جائے گا جب عوامی طور پر حاضری واپس بحال کر دی جائے گی۔



ماسک

ربانٹھیوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ سٹی نے برامپٹن میں کووڈ-19 کے لازمی فیس ماسک کے اپنے ضمنی قانون میں یکم اپریل 2022 تک توسیع کردی ہے۔

مینڈیٹری فیس کورنگز بائی لاء کے مطابق، برامپٹن میں موجود تمام اندرونی عوامی مقامات کے اندر نان میڈیکل ماسک کا استعمال لازمی ہے۔ اب، اسکارف، مفلر، گلوبند یا گردن گرم رکھنے والی اشیاء اور سانس لینے کے لیے والوز کے حامل ماسک کو فیس کورنگز کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ، ترمیم شدہ ضمنی قانون کے مطابق ماسک صرف اسی صورت میں اتارے جا سکتے ہیں جب کوئی شخص کھانے پینے کے لیے مختص شدہ کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر کھانا پینا چاہتا ہو۔

جسمانی فاصلہ بندی، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل درآمد اور ماسک پہننے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے پر سٹی اپنے ربانٹھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔

لنکس

- [سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 پروگرامنگ اور سروس اپ ڈیٹس](#)
- [کووڈ-19 کے دوران کاروباری اداروں اور کام کی جگہوں کو کیسے محفوظ رکھیں](#)
- [کووڈ-19 کا اضافہ شدہ ویکسین سرٹیفیکیٹ بمعہ کیو آر کوڈ اور ویریفائی اونٹیریو ایپ](#)
- [کووڈ-19، اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنا](#)
- [کووڈ-19 کی ویکسینیں](#)

30--

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca